



سوال

(148) نماز باجماعت کب فرض ہوتی ؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز باجماعت کب فرض ہوتی۔ کیا مکہ میں نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مکہ مکرمہ میں بھی رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تھے امامت جبریل علیہ السلام والا واقعہ اور آیت **وَلَا تُخْزِبْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا (بنی اسرائیل 110)** کا شان نزول پھر

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجَنِّ لِيَسْمِعُوا الْقُرْآنَ (احقاف 29)

”اور جس وقت پھیر لائے ہم طرف تیری جماعت جنوں میں سے سنتے تھے قرآن“ کا سبب نزول اس چیز کے دلائل ہیں۔ باقی نماز میں جماعت فرض ہونے کی تاریخ اس وقت مجھے یاد نہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

احکام و مسائل

نماز کا بیان ج 1 ص 136

محدث فتویٰ